

Tarjuma Tul Quran Majeed - FA Part 1 Tarjimatul Quran Chapter 8 Short Questions Test

Q1. سورة التوبة میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے۔

Ans 1: دوران ہجرت غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف اور مومن مجاہدین کی تعریف اور جہاد کرنے کی ترغیب کا بیان ہے۔

Q2. لفظ کے معنی تحریر کریں۔ یسلونک۔ اصلحو۔ وجلت۔ یتوکلون۔ فتنہ۔ فتنشلوا۔ بطرا۔

Ans 1: یسلونک۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اصلحو۔ درست رکھو۔ وجلت۔ کانپ اٹھتے ہیں۔ یتوکلون۔ وہ توکل کرتے ہیں۔ فتنہ۔ کوئی لشکر فتنشلوا۔ ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ بطرا۔ اکڑتے ہوئے۔

Q3. غزوہ بدر کا کیا نتیجہ نکلا؟

Ans 1: بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابوہل سمیت قریش کے ستر سردار مارے گئے، ستر افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

Q4. لفظ کے معنی لکھیں۔ ریحکم۔ ائناآلناس۔ حیبطہ۔ تراءت۔ نکص۔ العقاب۔

Ans 1: ریحکم۔ تمہاری ہوا۔ رئاآلناس۔ لوگوں کے دکھاتے ہوئے۔ حیبطہ۔ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تراءت۔ آمنے سامنے ہونیں۔ نکص۔ وہ بھاگا۔ العقاب۔ عذاب۔

Q5. سورة البقرہ میں کس آیات میں گائے کا زکر ہے۔

Ans 1: سورة البقرہ کی آیات سرسٹھ تا تہتر میں اس گائے کا واقعہ ہے جسے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔

Q6. سورة الانفال کے دو علمی اور عملی نکات تحریر کریں۔

Ans 1: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 2- دین اسلام میں جہاد کا اہم مقصد فتنے کا خاتمہ اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے دین کا غلبہ ہے۔

Q7. سورة البقرہ کا مضمون کے بارے میں تحریر کریں۔

Ans 1: سورة البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ سورة البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیائے کرام علیہم السلام کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا ہے۔ اسی طرح اس نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں۔ لہذا انسانوں کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو۔

Q8. سورة ال عمران کو سورة ال عمران کیوں کہا جاتا ہے۔

Ans 1: اس سورت کی آیات تینتیس تا سینتیس میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ ال عمران ہے

Q9. غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔

Ans 1: اس غزوہ سے یہ بات عملی طور پر ثابت ہوگئی کہ رسول اللہ خاتم النبیین کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔

Q10. سورۃ التوبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا ہے۔

Ans 1: منافقین کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سازشیں اور منافقانہ حرکتیں بھی بے نقاب کی گئی ہیں۔